

FA Part 2 Home Economics Full Book Online MCQ's Test

Sr	Questions	Answers Choice
1	حیاتی الف کی کمی سے کون سی بیماری لاحق ہوتی ہے	A. ملیریا B. ٹائیفائیڈ C. فالج D. شب کوری
2	کون سے نمکیات دانتوں کو سفید تہ دیتے ہیں	A. ایوٹین B. سوڈیم C. کلورین D. فلورین
3	بماری دانتوں اور ہڈیوں کی نشوونما اور شکست وریخت کے لیے بہت ضروری ہے	A. کیلشیم B. سلفر C. نمکیات D. ایوٹین
4	صفائی ایمان ہے	A. نصف B. ادھا C. پورا D. کوئی نہیں
5	فتنگ کے اصول ہیں	A. دو B. تین C. چار D. پانچ
6	مکمل پروٹین یا ضروری امینو ترشے کتنے ہوتے ہیں	A. دو B. چھ C. چار D. آٹھ
7	دھاگے سے کپڑا بننے تک کے مراحل ہیں	A. دو B. تین C. چار D. پانچ
8	گوشت، انڈا، حیوانی اور نباتاتی کھلاتی ہیں	A. نشاستہ B. روغنات C. لحمیات D. وٹامن
9	حیاتی (ج) کی کمی سے کون سی بیماری لاحق ہوتی ہے	A. ملیریا B. تشنج C. ٹائیفائیڈ D. سکروی
10	US RDA مخفف ہے	A. U.S. Recommended Daily allowance B. U.S. Russian Daily allowance C. U.S American Daily Allowance D. کوئی نہیں
11	اعلیٰ حیاتی قدر والی غذاؤں میں نشوونما کے لیے استعمال ضروری ہوتے ہیں	A. امینو ایسڈ B. لحمیات C. امینو ترشے D. وٹامن
12	حراروں کی فیصد مقدار میں کمی بیشی کا انحصار کس کی نوعیت پر بھی ہوتا ہے	A. وقت B. محنت C. کام D. توانائی
13	کھولنے اور ملانے کے بعد تمام ریشوں کو ایک مشین میں ڈالا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں	A. بورنگ مشین B. واشنگ مشین C. سلانی مشین D. کارٹنگ مشین
14	سبزیاں اور پھل کتنے اور چھپانے سے پہلے کیا کرنا چاہیے	A. دھونی چاہیے B. خشک کرنا چاہیے C. نرم کرنا چاہیے D. ابال لینی چاہیے
15	خوراک کے بغیر انسان کتنے دن تک زندہ رہ سکتا ہے	A. دو دن B. چھ دن C. آٹھ دن D. تین دن

دس دن

16

روغنی غذائیں کیسے بضم ہوتی ہیں

- A. بہت جلد
- B. بہت دیر سے
- C. آہستہ آہستہ
- D. ہوتی ہی نہیں

17

پروٹین کا لفظ کس زبان سے لیا گیا ہے

- A. عربی
- B. ترکش
- C. لاطینی
- D. یونانی

18

دنیا بھر میں انسان کی من پسند سبزی کون سی ہے

- A. الو
- B. ٹماٹر
- C. گوبھی
- D. پیاز

19

گلسرول کے کتنے کاربن ایٹم ہوتے ہیں

- A. دو
- B. تین
- C. چار
- D. پانچ

20

فہرست طعام کس کے مطابق ہونی چاہیے

- A. وقت کے مطابق
- B. بہت کے مطابق
- C. آمدنی کے مطابق
- D. بچت کے مطابق